

JUZ XI

94. Si (tun-tun munafik) madeak alasan ngen ko, amen udi bik belek ngen si (kunei medan perang). Kadeak ba : jibek ba udi madeak alasan; keme coa pecayo igai ngen ko, (kerno) sebeneane Allah bik melei namen ngen keme brita nu da sebeneane. Dan Allah ngen rasul-Ne lok kemliak kerjo ne, sudo-o udi neleak ngen da namen da gaib ngen da keten; lajau Si melei namen ngen ko jano da bik udi kemrejo.
- يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾
95. Konyo si lok besupeak ngen ko ngen gen Allah, amen udi belek ngen si, buliak udi coa dulai kunei ne. Mako jibeak ba dulai kunei ne; kerno sebeneane si-o ba najis dan pelabai ne jahanam; utuk bales kunei jano da bik si kemrejo.
- سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَنُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾
96. Si lok besumpeak ngen ko, buliak udi rela ngen si. Tapi amen sekirone udi rela ngen si, mako sebeneane Allah coa rela ngen t u n - t u n d a p a s i k - o .
- يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾
97. Tun-tun Arab Badwi-o, lebiak kapia dan munapik, dan lebiak wajar coa namen hukum-hukum da tenu-un Allah ngen rasul-Ne dan Allah paling lebiak namen kulo paling bijaksana.
- الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾
98. Neak antaro tun-tun arab Badwi o, ade tun da man(d)ang jano da si nafkahkan (neak dalen Allah) awei ade rugai dan si em(b)ot-em(b)ot bahayo tenipo ko; si ba da lok tenipo bahayo. Dan Allah paling meniuk kulopaling lebiak namen.
- وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدَّوَابِرَ ۗ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

99. Dan neak antaro tun-tun Arab Badwi o, ade tun da beimen ngen Allah dan bilai kiamat, dan man(d)ang jano da bik nafkahkan (neak dalen Allah) o, utuk dalen pa-ok ngen Allah dan utuk dalen utuk dapet du-o rasul. Namen ba sebeneane nafkah o ade ba suatu dalen utuk ne maok dirai (ngen Allah). Ko-nyo Allah lok empek si moi lem rahmat (sergo)-Ne; sebeneane Allah paling pengapun kulo paling penyayang.

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ
الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي
رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٦﴾

100. Tun-tun da bel-o kulo da pertamo-tamo (masuk islam) neak antaro tun-tun da temotoa si ngen baik Allah rela ngen si dan si kulo rela ngen Allah dan Allah semiap utuk ne sergo-sergo da mengalia bioa-bioa neak lem ne; si kekal neak lem ne selamo-lamo ne do-o ba kemenangan d a l a i .

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٦٧﴾

101. Neak antaro tun-tun arab Badwi da neak sekeliling nu o, ade tun-tun munafik; dan (kulo) neak antaro penduduk madinah. Si keterlaluan lem kemunafikan ne. udi (Muhammad) coa namen si. (tapi) keme ba da namen si. Ko-nyo si lok keme semikso duwai kilai sudo-o si lok nelekn gen a z a b d a l a i .

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ
نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٦٨﴾

102. Dan (ade kulo) tun-tun luyen da makau duso-duso ne, si cempuak baur kerjo da baik ngen kerjo da kidek. Mudah-mudahan Allah temrimo tubat ne sebeneane Allah paling pengapun kulo p a l i n g p e n y a y a n g .

وَأٰخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صٰلِحًا
وَءٰخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اَللّٰهُ اَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اَللّٰهَ
غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿٦٩﴾

103. Kemok ba zakat kunei pa-o hartone, ngen zakat-o udi em(b)ersihkan ngen semucaikan si, dan ndu-o ba utuk si. Sebeneane du-o udi-o (ijai) tentram jiwo utuk ne. Dan Allah paling meniuk kulo paling lebiak namen.
- خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾
104. Janokah si coa namen sebenane Allah tenimo tubat kunei umat-umat-Ne dan mnerimo zakat dan sebeneane Allah Paling trimo tubat kulo Paling Penyayang?.
- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٤﴾
105. Dan kadeakba : bekerjoba udi, mako Allah ngen rasul-Ne kulo tun-tun mukmin lok kemliak kerjonu-o, dan udi lok neleq ngen (Allah) da Namn da ghaib ngen da keten. Lajau neline ngen udi jano dabik udi kemrejo.
- وَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾
106. Dan ade (kulo) tun-tun luyen da nelel kesempatan sapei ade keputusan Allah : ade kalone Allah lok mazab si dan ade kalone Allah menerimo tubatne. Dan Allah Paling Lebiak Nemen kulo Paling Bijaksana.
- وَأَخْرَجُوا مُرَجُومَ اللَّهِ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾
107. Dan (neak antaro tun-tun munafik-o) ade tun-tun da menea masjid utuk tenim(b)oa bahayo (utuk tun-tun mukmin), utuk kapiane dan utuk mecuak antaro tun-tun mukmin kulo mbot teko tun-tun dabik melawen Allah ngen rasul-Ne kunei bel-o. Si sebeneane besupeak : keme coa kemlok seluyen kebaikan. Dan Allah jijai saksai bahwa sebeneane si-o adeba ngike (lem supeakne).
- وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾

108. Jibeakba udi semyang lem masjid-o selamo-lamone. Sebeneane masjid da tengok atas dasar taqwa (masjid quba) kunei bilai pertama adeba lebieak patut udi semyang neak lemne. Neak lemne ade tun-tun da lok mbersih dirai. Dan Allah Senang gen tun-tun da bersih.

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ
مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ
مُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ



109. Mako janokah tun-tun da temgok masjidne neak dasar taqwa ngen Allah ngen keridoan-(Ne) do-o da baik, ataukah tun-tun da temgok bangunanne neakmbiding jurang da ubuak lajau bangunane-o cucua berpok ngen si moi lem nrako jahanam? Dan Allah coa melei petunjuk ngen tun-tun da zalim.

أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ
وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا
جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



110. Bangunan-bangunan da si temgok-o slalu ijai mulo kraguan lem atei-ne, kecuali amen ateine-o bik ajua. Dan Allah Paling Nemen kulo Paling bijaksana.

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا
أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



111. Sebeneane Allah bik temukua kunei tun-tun mukmin, dirai dan hartone ngen melei sergo utukne. Sibeperang neak dalen Allahlajau si munuak atau si nunuak. (do-o bik ijai) janjai da benea kunei Allah neak lem Taurat, Injil dan Quran. Dan apikah da lebiak tempat janjaine (seluyen) kunei Allah ? Mako riang ba ngen jemoa-temukua da bik udi kemrejo-o, dan do-o ba kemenangan d a l a i .

۞ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَهُمُ الْجَنَّةِ ۚ يُقْتَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ
حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ
أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِرُوا بِنَيْعِكُمْ
الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ



112. Si-o adeba tun-tun da betubat da beribadat, damujai (Allah) melawat, da rukuk, da sujud, meluak kerjo ma'ruf ngen temgeak kerjo mungkar, dan meliharo hukum-hukum Allah. Dan riangba tun-tun mukmin-o.

الَّتَيْبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ
السَّيْحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

113. Coa sepatutne utuk nebai ngen tun-tun da beimen minoi apun (ngen Allah) utuk tun-tun musrik walaupun tun-tun musrik-o adeba kaum kerabat-ne, sudo jelas utukne, bahwa tun-tun musrik-o adeba penunggau nrako jahanam.

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

114. Dan kinoe apun kunei Ibrahim ngen Allah utuk bapokne, coa ade luyen hanyo ba kerno suatu janjai da bik nucepne ngen bapokne-o. Mako ketiko jelas utuk Ibrahim bahwa bapokne-o adeba musuak Allah, mako Ibrahim coa keno duso kene bapokne. Sebeneane Ibrahim adeba tun da kembang lembut ateine kulo penyatun.

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن
مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

115. Dan Allah agok debat coa kan menyematkan suatu kaum sudo Allah melei petunjuk ngen si sapei jemlasne ngen si jano da harus si me-uak. Sebeneane Allah Paling Namen neak das kute-kutene.

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ
حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

116. Sebeneane milik Allah krajaan lenget ngen mumei. Sid a midup ngen munuak, dan agok debat coade plindung ngen petulung utuknu seluyen Allah.

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يُخَيِّ
رُكُمْ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا
نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾

117. Sebeneane Allah bik temrimo tubat nebai, tun-tun muhajirin ngen tun-tun anshor da temotoa nebai lem maso kusulitan, sudo atei seklopok kunei-ne galit coa dulai sudo-o Allah temrimo tubatne-o. Sebeneane Allah Paling Pengasiak kulo Paling Penyayang ngen si.

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ
بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهَمِّ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾

118. Dan adep tlau tun da tena(h)en (trimo tubat)-ne, sapei amen bumei bik ijai sepit utukne, padahal bumei-o luas dan jiwonepun bik sepit (kulo tekding) kernone kulo si bik namen bahwa coa ade plabai melilaikune (sikso) Allah seluyen ngen Si bae. Sudo-o Allah temrimo tubatne buliak si tep lem tubatne. Sebeneane Allah bad a Paling Menerimo tubat kulo Paling Penyayang.

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ
أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

119. Hoi tun-tun da beimen betaqwaba ngen Allah, dan kelokne udi undok tun-tun da b e t a q w a .

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

120. Coa ba sepatutne utuk penduduk mdinak dan tun-tun Arab baduwi da diyem neak sikitarne coa milau serpok rasulullah (alau perang) dan coa patut (kulo) utukne lebiak cito diraine kunei pado cito dirai rasul. Da awei-o ba kerno si coa temipo aus, payeak, kenyemen neak dalen Allah. Dan coa (kulo) melat suatu plabai da meluak mengiak tun-tun kapia, dan coa temimboa suatu bencana ngen musuak, seluyen bik tenulisne utukne ngen da awei-o suatu amea sholeh. Sebeneane Allah coa siyo-siyo pahalo tun-tun kemrejo baik.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا
بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ
ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَطْئُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ
مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

121. Dan si coa menafkahkan suatu nafkah da didik dan coa (kulo) da lai dan coa mlitas suatu jurang, seluyen bik tenulis utukne (amea sholeh kulo) kerno Allah lok melei bales ngen si (ngen bales) da lebiak baik kunei jano da bik si kemrejo.
- وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾
122. Coa sepatutne utuk tun-tun da mukmin-o alau kutene (moi medan perang) gentai coa alau kune tiep-tiep klopok neak antarone pa-o tun utuk temutut ilmaune tentang agamo ngen utuk melei pringatan ngen kaumne amen si sudo belek moi kaumne, buliak si-o dapet jemago d i r a i n e .
- ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ ﴿١٢٢﴾
123. Hoi tun-tun beimen serangba tun-tun kapia neak skitarnu-o, dan kelokne si temau kekerasan kunei-nu dan namenba bahwa Allah berpok ngen tun-tun da t a k w a .
- يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَتَلُوا الَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ؕ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾
124. Dan amen tenu-un suatu ayat mako neak antarone (tun-tun munafik) ade da miling : apei neak antaro udi da betambeak imen-ne ngen (tu-un-ne) su-et yo? Sebenane tun-tun da beimen, mako su-et yo temambeakimen-ne, sedang si meding riang.
- وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ؕ إِيْمَانًا ؕ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾
125. Dan sebeneane tun-tun da neaklem ateine ade penyakit, mako gen su-et-o si betambeak kapiane neak saping kapiane (da bik ade) dan si matei lem keadaan k a p i a .
- ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ﴿١٢٥﴾

126. Dan coa kah si (tun-tun munafik) kemliak bahwa si nujai debat atau duwai kilai tiep tahun, sudo-o si coa (kulo) betubat dan coa (kulo) mok pelajaran ?
 أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾
127. Dan amen temu-un do su-et, pa-o si mandang ngen pa-o da luyen (samo madeak) adekah do kunei (tun-tun muslimin) da kemliak udi ? Sudo-o si alau. Allah bik me-uak ateine kerno si oba akum coa namen.
 وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَالِكًا يَرَبِّكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٦٧﴾
128. Sebeneane bik teko ngen ko do rasul kunei kaumnu dewek, be-et asai utukne penderitaan-nu kembang lok (keimanan) ngen keselamatan utuknu, kembang slen kulo penyayang adept un-tun mukmin.
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٨﴾
129. Amen si coa dulai (kune keimanan) mako kadeakba : cukupba Allah utuk-ku; coa ade tuhan seluyen Si. Ngen Sib a uku bertawakal, dan Si o ba Tuhan ade 'arasy da lai.
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٦٩﴾